



HBL PAKISTAN SUPER LEAGUE

ایچ بی ایل پی ایس ایل فائیو کے لیے متبادل کھلاڑیوں کا انتخاب

لاہور، 8 فروری 2020ء:

ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ 2020 کے لیے کھلاڑیوں کے متبادل پر مشتمل ڈرافٹ پی سی بی کے ہیڈ کوارٹرز، قذافی اسٹیڈیم لاہور میں منعقد ہوا۔ لیگ کے پانچویں ایڈیشن کا آغاز 20 فروری سے ہوگا۔

ریپلیسمنٹ ڈرافٹ میں شامل فرنچائزز نے ابتدائی ڈرافٹ میں پک کیے گئے کھلاڑیوں کی عدم دستیابی کے باعث متبادل کھلاڑیوں کو مکمل یا جزوی طور پر ایونٹ میں شرکت کے لیے پک کر لیا ہے۔

لیگ کے پانچویں ایڈیشن کے لیے پشاور زلمی اور کراچی کنگز نے 2،2 جبکہ لاہور قلندرز، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز، اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز نے 1،1 متبادل کرکٹر کو اسکواڈ میں شامل کیا ہے۔

اس حوالے سے کراچی کنگز نے ریپلیسمنٹ ڈرافٹ میں پک کیے گئے دونوں کھلاڑیوں کو مکمل ایڈیشن کے لیے اسکواڈ میں شامل کیا تاہم پشاور زلمی کی ایک پک مکمل ایڈیشن اور دوسری جزوقتی طور پر اسکواڈ کا حصہ ہوگی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز نے مکمل ایڈیشن کے لیے ایک ایک جبکہ ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے مقررہ وقت تک کے لیے ایک ایک متبادل کرکٹر کا انتخاب کیا ہے۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کے عمل میں منتخب شدہ کھلاڑیوں کی عدم دستیابی کے باعث ریپلیسمنٹ ڈرافٹ کا انعقاد کیا گیا تھا جو کھلاڑی ابتدائی ڈرافٹ سے قبل ہی عدم دستیابی ظاہر کرچکے تھے ان فرنچائزز کو ریپلیسمنٹ ڈرافٹ میں پہلے پکس دی گئیں۔

ریپلیسمنٹ ڈرافٹ میں کراچی کنگز نے مکمل ایڈیشن کے لیے اسکواڈ میں 2 تبدیلیاں کی ہیں۔ اس سلسلے میں لیام پلنکٹ (گولڈ، سپلیمنٹری) کی جگہ نیوزی لینڈ کے مچل

میکلینگن (گولڈ) اور انگلینڈ کے ڈین لارنس (سلور) کی جگہ ویسٹ انڈیز کے چیڈوک والٹن (سلور) کو اسکوڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔

لیام پلنکٹ انجری اور ڈین لارنس نیشنل ڈیوٹی کے باعث کراچی کنگز کو دستیاب نہیں ہوں گے۔ مچل میکلینگن گذشتہ ایڈیشن میں لاہور قلندرز جبکہ چیڈوک والٹن ایڈیشن 2018 اور 2019 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کر چکے ہیں۔

پشاور زلمی نے جنوبی افریقہ کے ڈوائن پریٹوریئس (سلور) کی جگہ انگلینڈ کے لوئس گریگری (سلور) کو مکمل ایڈیشن کے لیے اسکوڈ میں شامل کر لیا ہے۔ ڈوائن پریٹوریئس بھی نیشنل ڈیوٹی کے باعث پشاور زلمی کو دستیاب نہیں ہوں گی۔

ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کے درمیان سیریز کے باعث آراؤنڈر کیرون پولارڈ (پلاٹینم) 7 مارچ تک پشاور زلمی کو دستیاب نہیں ہوں گے لہذا پشاور زلمی نے کیرون پولارڈ کی جگہ کارلوس بریتھ ویٹ (ڈائمنڈ) کو جزوی طور پر اسکوڈ میں شامل کر لیا ہے۔ کارلوس بریتھ ویٹ گذشتہ ایڈیشن میں لاہور قلندرز کی نمائندگی کر چکے ہیں۔

اسی طرح نیشنل ڈیوٹی کے باعث ویسٹ انڈیز کے فابین ایلن (سلور) بھی مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتان سلطانز کو دستیاب نہیں ہوں گی۔ فابین ایلن کی جگہ انگلینڈ کے وائن میڈسن (سلور) مقررہ وقت تک ملتان سلطانز کا حصہ ہوں گے۔

ویسٹ انڈیز کے لینڈل سمنز (ڈائمنڈ، سپلیمنٹری) نجی وجوہات کے باعث ایونٹ میں شرکت نہیں کر رہے لہذا ان کی جگہ جنوبی افریقہ کے ڈین ولاز (گولڈ) مکمل ایڈیشن میں لاہور قلندرز کی نمائندگی کریں گے۔

اسلام آباد یونائیٹڈ نے وان دیر دوسن (گولڈ، سپلیمنٹری) کی جگہ انگلینڈ کے بلے باز ڈیوڈ ملان (سلور) کو مکمل ایڈیشن کے لیے اسکوڈ میں شامل کر لیا ہے۔ وان دیر دوسن نیشنل ڈیوٹی کے باعث دستیاب نہیں ہیں۔ ڈیوڈ ملان نے گذشتہ 4 ایڈیشنز میں پشاور زلمی کی نمائندگی کی۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے نیشنل ڈیوٹی کے باعث 7 مارچ تک عدم دستیاب کیمو پاؤل (سلور)، سپلیمنٹری) کی جگہ سدرن پنجاب کے لیگ اسپنرز اہد محمود (سلور) کو جزوی طور پر اسکوڈ میں شامل کر لیا ہے۔

اسکوڈ میں شامل متبادل کرکٹرز:

کراچی کنگز: انگلینڈ کے ایام پلنکٹ (گولڈ، سپلیمنٹری) کی جگہ نیوزی لینڈ کے مچل میکلینکن (گولڈ) اور انگلینڈ کے ڈین لارنس (سلور) کی جگہ ویسٹ انڈیز کے چیڈوک والٹن (سلور) اسکوآڈ میں شامل (دونوں کھلاڑیوں کا انتخاب مکمل ایڈیشن کے لیے کیا گیا)۔

پشاور زلمی: جنوبی افریقہ کے ڈوائن پریٹوریئس (سلور) کی جگہ انگلینڈ کے لوئس گریگری (سلور) مکمل ایڈیشن اور ویسٹ انڈیز کے کیرون پولارڈ (پلاٹینم) کی جگہ کارلوس بریتھ ویٹ (ڈائمنڈ) 7 مارچ تک کے لیے اسکوآڈ میں شامل۔

ملتان سلطانز: ویسٹ انڈیز کے فابینن ایلن (سلور) کی جگہ انگلینڈ کے وائن میڈسن (سلور) 7 مارچ تک کے لیے اسکوآڈ میں شامل۔

لاہور قلندرز: ویسٹ انڈیز کے لینڈل سمنز (ڈائمنڈ، سپلیمنٹری) کی جگہ جنوبی افریقہ کے ڈین ولاز (گولڈ) مکمل ایڈیشن کے لیے اسکوآڈ میں شامل۔

اسلام آباد یونائیٹڈ: جنوبی افریقہ کے وان دیر دوسن (گولڈ، سپلیمنٹری) کی جگہ انگلینڈ کے بلے باز ڈیوڈ ملان (سلور) مکمل ایڈیشن کے لیے اسکوآڈ میں شامل۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز: ویسٹ انڈیز کے کیمو پاؤل (سلور، سپلیمنٹری) کی جگہ سدرن پنجاب کے لیگ اسپنرز اہد محمود (سلور) 7 مارچ تک کے لیے اسکوآڈ میں شامل۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 بیس فروری سے بائیس مارچ تک کراچی، لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں کھیلی جائے گی۔ ایونٹ کا پہلا میچ دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کراچی میں جبکہ فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا۔

لیگ کے لیے ٹکٹوں کی آن لائن بکنگ www.yayvo.com پر دستیاب ہے جبکہ شائقین کرکٹ ٹی سی ایس کے ایکسپریس سنٹرز سے بھی ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

Partners



www.psl-120.com
@thePSL120
@thePSL
PakistanSuperLeague
@thePSL

PSL Secretariat
Gaddafi Stadium,
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4